

Maulana Azad National Urdu University

B.Tech III Semester Examination, December 2023

Paper - BTCS311HST : Technology and Society

پرچہ : مکمل اور سماج

Time : 2 hrs

Marks : 35

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 5 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ خالی جگہ پر کرنا/ مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔

(5 x 1 = 5 Marks)

2. حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 10 سو (200) لفظوں پر

(5 x 4 = 20 Marks)

3. حصہ سوم میں 2 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 01 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر

(1 x 10 = 10 Marks)

حصہ اول

سوال (1)

(i) Biometric کی تصدیق کیسے کی جاتی ہے؟

(ii) Science اور Technology میں کیا فرق ہے؟

(iii) Cyber Security کیا ہے؟

(iv) Data Fication پر روشی ڈالیے۔

(v) Genomics کے بارے میں لکھیے۔

حصہ دوم

(2) Nanotechnology کی ایجاد کس نے اور کب کی؟ اس کا معاشرے پر کیا Impact پڑا ہے؟ وضاحت کریں۔

(3) Gene Therapy جن تھراپی کیا ہے؟ اس کی مختلف شکلوں پر روشی ڈالیں۔

(4) Define Society کو کرتے ہوئے اس کے دو Positive Impacts اور Negative Impacts کیا ہیں؟ پر کیا ہیں؟

(5) "Penny Farthing" Perspective کے Social Construction of Technology (SCOT) کا خاکہ (Diagram) بنائیے۔

(6) انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے معاشرہ پر Positive Impacts اور Negative Impacts کیا ہیں؟ روشنی ڈالیے۔

(7) "Women have successfully adopted to rapid change in the technology" کے ساتھ Facts اپنے بیان کو Justify کریں۔

- Social Isolation سے کیا مراد ہے؟ Hat causes Social Isolation کیا ہیں؟ بیان کریں۔ (8)
- مناسب مثالوں کے ساتھ Society اور Technology کے درمیان کے Relationship کو بیان کریں۔ (9)

حصہ سوم

(10) درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔

Router اور Switch : Network Device (a)

Protocols FTP اور TCP/IP (b)

Mac Address Vs. IP Address (c)

موسمیاتی تبدیلی (Climate Change) کے مندرجہ ذیل Effects کو Analyse کریں۔ (11)

Economic (a)

Geopolitical (b)

Meteorological (c)

Biological (d)

